

## سٹی آف برامپٹن 4 تا 10 اکتوبر کے دوران آگ سے بچاؤ کا ہفتہ پر منا رہا ہے

برامپٹن، آن (2 اکتوبر 2020) - مورخہ 10 - 4 اکتوبر کے دوران برامپٹن میں آگ سے بچاؤ کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے دوران شہریوں کو کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جائے گی۔ اس سال کا موضوع ہے "کھانا پکانے کے دوران ہمیشہ کچن کے اندر موجود رہیں"۔

برامپٹن میں آگ لگنے کے زیادہ تر واقعات کا تعلق کچن سے شروع ہونے والی آگ سے ہوتا ہے۔ کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنے کے حوالے سے، شہری درج ذیل سادہ اقدامات پر عمل کر سکتے ہیں:

- کھانے پکانے کے دوران ہمیشہ کچن کے اندر موجود رہیں
- کچن سے توجہ کو منتشر کرنے والی چیزیں ہٹا دیں، بشمول سیل فون اور ٹی وی
- اگر کھانے پکانے کے دوران آپ کو کچن سے باہر جانا پڑ جائے، تو چولہا بند کر دیں اور برتنوں کو برنر سے نیچے اتار کر باہر جائیں
- اگر آپ کو غنودگی محسوس ہو رہی ہو یا دماغ پر الکحل یا چرس وغیرہ کا اثر موجود ہو، تو کھانے پکانے کا کام نہ کریں
- آگ پکڑنے والی تمام چیزوں کو چولہے سے دور رکھیں (مثلاً اوون کے دستانے، لکڑی کے برتن، کھانوں کے ڈبے، تولیے اور پردے وغیرہ)
- کھانا پکاتے وقت چھوٹے یا تنگ بازوں والے کپڑے پہنے

### آگ سے بچاؤ کے ہفتے کی آن لائن تقریبات

کووڈ-19 کی وجہ سے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے آگے سے بچاؤ کے ہفتے کے تمام پروگرام اس سال ورجنل طریقے سے منعقد کیے جائیں گے۔ روزانہ کے مفید مشوروں، ترکیبوں اور مزید بہت کچھ کے لیے برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#)، اور [یوٹیوب](#) پر فالو کریں!

بروز پیر مورخہ 5 اکتوبر کو شام 6 بجے تک فیس بک لائیو کوکنگ شو میں شرکت کے لیے [سٹی کے فیس بک صفحہ](#) پر فائر چیف بل بوائز اور جے ریڈ اینڈ کمپنی فوڈ + ڈرنک کے شیف جیسین روسو کے ساتھ شامل ہو جائیں، جس میں مزے مزے کے کھانوں کی ترکیبوں کے علاوہ آگ سے حفاظت کے کچھ مفید مشورے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور آپ کے پاس سوالات پوچھنے کا موقع بھی موجود ہو گا!

ریگے کچن کی جانب سے شیف وینے ریڈ کے ساتھ ایک آن لائن کوکنگ شو بھی شامل ہو گا - جانیں کہ آپ اپنے کچن میں کیسے بحفاظت رہتے ہوئے ایک سادہ جرک چکن سیٹر بنا سکتے ہیں۔

آگ سے بچاؤ کا ہفتہ برامپٹن کو ایک [صحت مندانہ اور محفوظ شہر](#) بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔

### اقتباسات

"آگ سے بچاؤ کا ہفتہ ہمیں ایک اہم یاد دہانی کراتا ہے کہ آگ سے تحفظ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ چونکہ کوروناوائرس کی روک تھام اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں کچن میں کھانا پکانے کے دوران محفوظ رہنا اب پہلے سے کہیں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ کچن میں محفوظ رہنے کے حوالے سے مزید سیکھیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"آگ سے تحفظ کے حوالے سے ہم سب کا ایک کردار ہے۔ میں رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ پیشگی طور پر فعال رہیں۔ کچن میں آگ سے بچاؤ کے بارے میں سیکھیں اور اپنے گھروں اور پیاروں کو آگ سے محفوظ رکھیں۔ اگر ہم سب اپنا کردار ادا کریں گے، تو زندگیاں بچا سکتے ہیں۔"

- رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"ہماری ٹیم ہمارے شہر اور رہائشیوں کو صحت مند اور محفوظ رکھنے کے لیے اپنی استعداد کے مطابق روزانہ کام کرتی ہے۔ میں تمام رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں اور یہ سیکھیں کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے پیاروں کے لیے کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ہم سب مل جل کر ہی آگ سے بچاؤ کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔"

- چارمین ولیمز، سٹی کونسلر وارڈز 7 اور 8؛ وائس چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن میں آگے لگنے کے واقعات میں سے زیادہ تر کا آغاز کچن میں لگنے والی آگ سے ہوتا ہے اور ان سے عام طور پر آسانی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ہماری برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی ٹیم ہمیشہ بروقت کارروائی کے لیے تیار رہتی ہے؛ تاہم، ہماری آگ بجھانے کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہمارے رہائشی خود بھی ہیں اور وہ اپنے گھروں کو خود آگ سے بچانے میں سب سے زیادہ اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جانیں کہ آپ کو اپنے گھر اور خاندان کو بچانے کے لیے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔"

- چیف ہل بوائز، برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز

--30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)